

Roll No. _____
'میڈ ار خوبی کرے'
RP-10-19-GI

(For all Sessions)

Group-I

Paper Code | 7 | 4 | 8 | 3

Chemistry (Objective Type)

Marks: 12

Time: 15 Minutes وقت: 15 منٹ

نمر: 12 نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معرفی جو ای کامپیوٹر پر لکھتے ہوں جوابات کے پارسکن جوابات A,C,B,D میں اور D میں دیے گئے ہیں، جس جواب کو آپ درست بھیجیں، جواب کا پر اس سوال نمبر کے ساتھ جو A, B, C, D میں سے متفق دائرے کو مار کر یادچین کی سایہ سے بھر دیں۔

NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

- 1.1. Swimming pools are cleaned by which process?
 (A) Nitration نیتریشن (B) Hydrogenation ہیدروجنیشن (C) Bromination برومیشن (D) Chlorination چلریشن
- 1.2. Which disease causes bones and teeth damage?
 (A) Fluorosis فلوروسس (B) Hepatitis ہپیاتانٹس (C) Cholera چولرا (D) Joundice یوچان
- 1.3. The fraction of residual oil is:
 (A) Petroleum gas پیٹریلم گیس (B) Petroleum ether پیٹریلم ایتر (C) Diesel oil ڈیزل ائکل (D) Lubricants لبرکنٹس
- 1.4. The colour of Iodine is:
 (A) White سفید (B) Red رنگ (C) Pink گلابی (D) Purple جائی
- 1.5. The units of molar concentration are:
 (A) mol cm² (B) mol dm³ (C) mol dm⁻³ (D) mol m² مول کنٹریشن کے یونیٹز ہیں:
- 1.6. The acid used for food preservation is:
 (A) Sulphuric acid سلفیورک ایسٹ (B) Nitric acid نیٹریک ایسٹ (C) Hydrochloric acid ہائیڈرو کلورک ایسٹ (D) Benzoic acid بنزوئیک ایسٹ
- 1.7. Sum of pH and pOH of solution at 25°C is always:
 (A) 14 (B) 12 (C) 10 (D) 8 25°C پر سلution میں pH اور pOH کا حاصل تینیں ہیشہ ہوتا ہے:
- 1.8. The first organic compound was prepared by:
 (A) Dalton ڈالٹن (B) Berzelluis برزیلیس (C) Wohler ہولر (D) Lavoisier لیوویز
- 1.9. The general formula of alkenes is:
 (A) C_nH_{2n+2} (B) C_nH_{2n} (C) C_nH_{2n-1} (D) C_nH_{2n-2} الکنیز (Alkenes) کا جائز فارمولہ ہے:
- 1.10. Which one of the following is tasteless compound?
 (A) Starch شارچ (B) Glucose گلکوز (C) Fructose فرکٹوز (D) Sucrose سکروز مندرجہ ذیل میں سے کوئی نسبتہ اکئی مرکب ہے؟
- 1.11. Which organic compounds are used as drug to control bleeding?
 (A) Vitamins ویٹامن (B) Glucose گلکوز (C) Lipids لیپڈز (D) Proteins پروٹینز زمین کی سطح کے بالکل اوپر کوئی نہیں ہے؟
- 1.12. Just above the earth's surface is:
 (A) Mesosphere میزو اسٹافر (B) Stratosphere سٹریٹوسٹافر (C) Thermosphere تھرموسٹافر (D) Troposphere ٹروپوسٹافر

Roll No. _____
نمبر ارکانہ کرے
RP-10-19-G.I

(For all Sessions)

Group-I

کیمیسٹری (انٹائی)

Chemistry (Essay Type)

Marks: 48

Time: 1:45 Hours گھنٹہ 1:45

نمبر: 48.

Section -I

2x15=30

حصہ اول

2. درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔ 2 x 5 = 10
- Give two macroscopic characteristics of Reverse reactions.
 - Derive equilibrium constant expression for the synthesis of nitrogen monoxide from N₂ and O₂.
 - How direction of a reaction can be predicted?
 - Write two possibilities of chemical equilibrium state.
 - Write names of two naturally occurring acids with their sources.
 - Give two uses of Magnesium hydroxide.
 - Define normal salts with one example.
 - Na₂SO₄ is a neutral salt. Write its uses.
3. Write short answers of any five parts from the following. 2 x 5 = 10
- Classify the organic compounds on the basis of skeleton.
 - What is the process of destructive distillation.
 - What is Isomerism?
 - Define process of halogenation with an example.
 - Why alkenes are also known as olifins?
 - What is meant by non essential amino acids?
 - Define carbohydrates and write its general formula.
 - What is meant by genetic code of life?
4. Write short answers of any five parts from the following. 2 x 5 = 10
- Differentiate between primary and secondary air pollutants.
 - How ozone layer forms in stratosphere?
 - State the phenomenon of decreasing temperature in troposphere.
 - Why non-polar compounds are insoluble in water?
 - Differentiate between soft and hard water.
 - Define gravity separation method.
 - Describe the formation of petroleum.
 - Write two uses of kerosene oil.

Section -II

Note: Answer any two questions from the following.

نوم: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ 9x2=18

- 5.(a) State the law of mass action and derive the expression for equilibrium constant for a general reaction. 05 (الف) لاہاؤں اس ایکشن تحریر کیجئے اور ایک جزوی ایکشن کے لیے ایکوی لمبیم کونسٹنٹ ایکپرینٹن لخڑ کیجئے۔
- (b) Explain Lewis concept of acids and bases with the help of examples. 04 (ب) لیوس کا ایسٹرڈ اور جوز کا نظریہ بیان کیجئے اور مثالوں کے ساتھ وضاحت کیجئے۔
- 6.(a) Explain the halogenation of Methane in diffused and direct sunlight. 05 (الف) سورج کی مدد اور تیز روشنی میں میکٹھن کی یہیوچینش کی وضاحت کیجئے۔
- (b) Describe the importance of vitamins. 04 (ب) دنائزکی اہمیت بیان کریں۔
- 7.(a) How is urea manufactured? Explain with the help of flowsheet diagram. 05 (الف) یوریا کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ فلووٹھٹ زایگرام سے وضاحت کیجئے۔
- (b) Explain the water pollution because of industrial waste. 04 (ب) انڈسٹریل دیسٹ کی وجہ سے داڑپلش کی وضاحت کیجئے۔

(For all Sessions)

Paper Code	7	4	8	4
------------	---	---	---	---

Roll No. میڈیا رکورڈر کرے

Group-II

کیمیسٹری (معروضی)

Chemistry (Objective Type)

Marks: 12

Time: 15 Minutes وقت: 15 منٹ

نوت: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھئے ہوں۔ اور جو اپنے جوابات کے تامنے جزو A, B, C, D میں سے مختلف دائرے کو مارکر یا پین کی سایہ سے بھر دیں۔

NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

1. Temporary hardness of water is removed by adding:
سوڈا کربونیٹ
(A) Quick lime (B) Slaked lime (C) Lime stone (D) Sodium carbonate بجھا ہو جانا
2. Which gas is used to destroy harmful bacteria in water?
برومین
(A) Iodine (B) Chlorine (C) Fluorine (D) Bromine آئیوزین
3. Crude oil is heated in furnace upto:
(A) 300°C (B) 350°C (C) 400°C (D) 450°C
4. Active mass is represented by:
(A) () (B) { } (C) [] (D) Ψ
5. Equilibrium constant expression for given reaction is:
$$2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$$

(A) $\frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$ (B) $\frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[\text{NO}_2]^2}$ (C) $\frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[2\text{NO}_2]}$ (D) $\frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[\text{NO}_2]}$
6. Which salt will you use to dry a gas?
(A) CaCO_3 (B) NaCl (C) Na_2CO_3 (D) CaO
7. What is pOH of $0.02\text{M} \text{ Ca(OH)}_2$?
(A) 1.698 (B) 1.397 (C) 12.31 (D) 12.61
کاول گیس کلچر ہے: $\text{Ca(OH)}_2 0.02\text{M}$ کیا ہے؟
8. Coal gas is mixture of:
(A) CO and CH_4 (B) CO , CH_4 and CO_2 (C) CO , CH_4 and H_2 (D) CO , CO_2 and H_2
9. Reduction of Alkyl halides take place in the presence of:
(A) Cu/HCl (B) Zn/HCl (C) Na/HCl (D) Mg/HCl
اکل ہیلائیز کی روشنی درج ذیل میں سے کس کی موجودگی میں ہوتی ہے؟
10. Which one of the following is tasteless?
(A) Glucose گلوکوز (B) Fructose فرکٹوز (C) Sucrose سکرز (D) Starch شارچ
مندرجہ ذیل میں سے کونسا بے ذائقہ ہے؟
11. Amino Acids are the building blocks of:
(A) Carbohydrates کاربوجن ائردرائٹس (B) DNA ذی این اے (C) Proteins پروٹئن (D) Lipids لپڑ
اماگنوسٹ زووج ذیل میں سے کس کے بلندگ بآکس ہیں؟
12. Just above the surface of earth there is present:
(A) Mesosphere میزو اسٹریفر (B) Stratosphere سٹریٹسٹر (C) Troposphere تروپوسٹر (D) Thermosphere ٹرموسٹر
عمر میٹر کے بالکل اوپر موجود ہے:

No.

امیدوار خود کرے

(For all Sessions)

RP-10-19 - C-II Group-II

Chemistry (Essay Type)**کیمیسٹری (انٹائیر)****Marks: 48****Time: 1:45 Hours گھنٹے 1:45****نمبر: 48****Section -I****2x15=30****2. Write short answers of any five parts from the following.****2 x 5 = 10**

i. Define irreversible chemical reaction.

حصہ اول

ii. ایکوئی لبری کونسٹنٹ کی تعریف کیجئے۔

iii. Define equilibrium constant.

iv. اگر K_c کی عددی و مطلقی چوپانی ہو تو ایکلری ایکشن کی حد کی چیز گوئی کیجئے۔v. If numerical value of K_c is small then predict the extent of chemical reaction.

v. دی گئی مساوات کے لیے ایکوئی لبری کونسٹنٹ ایکپرین لکھیے۔

vi. Write equilibrium constant expression for $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$.

v. pH کے دو استعمالات لکھیے۔

vii. Write two uses of pH.

viii. امنیکس نظریہ کے مطابق ایسٹ اور بیس کی تعریف کیجئے۔

viii. Define indicator and give one example.

ix. اسٹئٹ اور ملیک آکسایٹ کے ری ایکشن سے سالک کسر طرح پار کی جاتے ہیں؟

ix. How salt is prepared by the reaction of an acid and metallic oxide.

x. درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

3. Write short answers of any five parts from the following.**2 x 5 = 10**

i. Define Catenation.

i. کمین نیشن کی تعریف کیجئے۔

ii. Write names of two aromatic compounds found in Coal Tar.

ii. کول ہار میں موجود دو اونٹکل کپاڈ نیڑے کا نام لکھیے۔

iii. Define molecular formula and give one example.

iii. مائل کیلور فارمولا کی تعریف لکھیے اور ایک مثال دیجئے۔

iv. Write general formula for saturated and unsaturated hydrocarbons.

iv. سچ پریڈ اور ان سچ پریڈ ہائیڈرولکر بزرگ ہزار فارمولے تحریر کیجئے۔

v. What is combustion? Give a reaction.

v. کمین کیا ہے؟ ایک ری ایکشن لکھیے۔

vi. What are polysaccharides? Give an example.

vi. پولی سکرائڈز کیا ہیں؟ ایک مثال دیجئے۔

vii. What are the effects of accumulation of vitamin D in the body?

vii. جسم میں وٹاٹن D کی زیادتی کے اثرات کیا ہیں؟

viii. Write down the balanced equation for the formation of glucose.

viii. گلوکوز بننے کی متوازن مساوات لکھیے۔

4. Write short answers of any five parts from the following.**2 x 5 = 10**

i. Define secondary pollutants and give two examples.

i. سینٹری پلٹنکس کی تعریف کیجئے اور دو مثالیں دیجئے۔

ii. Define green house effect.

ii. گرین ہاؤس لیفٹ کی تعریف کیجئے۔

iii. How does combustion of fossil fuels in internal combustion engine produce oxides of nitrogen?

iii. انترنل کمپرسن (Combustion) (اگن) میں فوسل فیولز کے جلا سے نیٹروجن کے آکسائیڈز کیسے بنتے ہیں؟

iv. Define capillary action.

iv. کپیلری ایکشن کی تعریف کیجئے۔

v. What is Scum?

v. سکم (Scum) کیا ہے؟

vi. Define electromagnetic separation.

vi. ایکٹریمیکٹیک پریشن کی تعریف کیجئے۔

vii. Define calcination with chemical equation.

vii. پلٹنکن کی تعریف کیا ہے؟ کیا ایسی مساوات کی مدد سے کہی جاتے ہیں۔

viii. How ammonia is prepared by Haber's process?

viii. ہابر پروسس سے امونیا کیسے تیار کی جاتی ہے؟

Section -II**حصہ دوم****نوت: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ 9x2=18**

5.(a) State the law of mass action and derive the expression for equilibrium constant for general reation.

05 (الف) لا اے اف اس ایکشن تحریر کیجئے اور ایک جzel ری ایکشن کے لیے ایکوئی لبری کونسٹنٹ ایکپرین لکھن اخذ کیجئے۔

(b) Write any four characteristic properties of salts.

04 (ب) سائس کی کوئی چار خصوصیات تحریر کیجئے۔

6.(a) Explain saturated and unsaturated hydrocarbons with examples.

05 (الف) سچ پریڈ اور ان سچ پریڈ ہائیڈرولکر مٹاٹوں کی مدد سے وضاحت کیجئے۔

(b) Explain the uses and sources of proteins.

04 (ب) پروٹین کے سورزا اور ان کے استعمالات کی وضاحت کیجئے۔

7.(a) What is meant by concentration of an Ore? Describe in detail the various process involved in the concentration of Ore.

05 (الف) اور (Ore) کی لنٹریشن سے کیا مراد ہے؟ اور کی لنٹریشن میں مختلف پروسس کی تجزیہ کیجئے۔

(b) Explain the methods of removing permanent hardness of water.

04 (ب) پانی کی پرمائیٹ ہارڈنیس کو درکرنے کے طریقوں کی وضاحت کیجئے۔